

25 جولائی 2018

## اچھے دوست ڈھونڈنے مشکل ہیں۔ آج ہی اپنوں کا لائسنس حاصل کریں!

برامپٹن، آن – کوئی یہ کبھی نہیں سوچتا کہ ان کا پالتو جانور گم ہو جائے گا۔ لیکن گھر کے اندر رہنے والی بلی کو گھر سے باہر نکلنے یا ایک اچھی طرح تربیت یافتہ کتے کو ڈر کر بھاگنے میں ایک لمحے سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر ایسا ہوتا ہے، تو اس بات کو یقینی بنانے کا سب سے بہترین طریقہ لائسنس ہی ہے کہ وہ حفاظت سے گھر پہنچ جائے۔

اسی وجہ سے، برامپٹن اینیمل سروسز رہنمائیوں سے ان کی بلیوں اور کتوں کے لائسنس کی اہمیت کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے گھر گھر جا رہی ہے، جو برامپٹن کے اینیمل کنٹرول کے ضمنی قانون کا تقاضہ ہے۔ آج سے لے کر اگست کے مہینے کے اختتام تک، سمر اسٹوڈنٹس کا ایک چھوٹا گروپ اینیمل کنٹرول آفیسر کے ہمراہ لائسنس کے حصول کے متعلق مفید معلومات شیئر کرے گا اور سوالات کے جوابات دے گا۔ وہ چالان نہیں کریں گے لیکن اگر آپ اپنا لائسنس خریدنا بھول گئے ہوں اور موقع پر ہی بنوانا چاہتے ہوں، تو آپ کو وہیں پر لائسنس بنوانے کی سہولت دستیاب ہو گی۔

ہر سال موسم گرما میں مختلف علاقوں میں گھر گھر دورے کیے جاتے ہیں۔ ان گرمیوں میں، ان کی توجہ کا مرکز بویرڈ ڈرائیو، برامیلا روڈ، کونین اسٹریٹ اور ہائی وے 410 کے درمیان آنے والے علاقے ہوں گے۔ دیگر علاقوں میں بھی کچھ حد تک عوامی رابطہ کیا جا سکتا ہے اور یہ ٹیمیں کئی پارکس میں پوپ اپ ڈسپلے بھی لگائیں گی۔

تمام دورے پیر تا جمعہ عام اوقات کار میں کیے جائیں گے۔ ان ٹیموں کے پاس سٹی کی جانب سے جاری کردہ شناختی دستاویزات موجود ہوں گی اور وہ سٹی آف برامپٹن اینیمل سروسز کی مہر کے ساتھ ہلکے نیلے رنگ کی شرٹس پہنیں گے۔ اگر آپ کے پاس سوالات ہیں، تو برائے مہربانی برامپٹن اینیمل سروسز سے 905.458.5800 یا [animal.services@brampton.ca](mailto:animal.services@brampton.ca) پر رابطہ کریں۔

### لائسنس اتنا اہم کیوں ہے؟

- اگر کوئی کتنا یا بلی گم ہو جائے، تو ان کا لائسنس فوری طور پر نظر آ جاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ وہ بے گھر نہیں ہیں۔
- لائسنس کسی بھی شخص کے لیے پالتو جانور کے مالک سے رابطہ کرنے کا تیز ترین طریقہ ہے۔ یہ خاص طور پر اس صورت میں بھی اہم ہے کہ اگر کسی پالتو جانور کو کوئی گاڑی وغیرہ ٹکر مار دے یا وہ کسی دوسرے طریقے سے زخمی ہو جائے۔
- اگر کوئی لائسنس یافتہ پالتو جانور شیپلٹر میں آ جائے، تو اینیمل سروسز اسے فوراً اس کے مالک تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ شیپلٹر میں کم وقت گزارے گا، جس سے پالتو جانور اور اس کے مالک، دونوں کے لیے تناؤ کم ہو گا۔
- لائسنس دوسرے جانوروں کی بھی مدد کرتا ہے۔ لائسنس کی فراہمی سے حاصل ہونے والے بیسے اینیمل سروسز کو ایسے جانوروں کی نگہداشت کرنے میں مدد دیتے ہیں، جو روزانہ شیپلٹر میں آتے ہیں۔